



سوال

(37) داڑھی کا مذاق اڑانا بڑا جرم ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جو شخص داڑھی منڈواتا ہے اور داڑھی رکھنے والے سے ٹھٹھا مذاق کرتا ہے اور اسے بھی داڑھی مونڈنے کا حکم دیتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ کیونکہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں یہ عمل کیا ہے اور جو شخص مذاق اڑاتا ہو اسے سمجھانا چاہئے کہ داڑھی بڑھانے کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے مرتد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ يَا آللهِ وَإِيَّاهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَاتُغْنِي زُرُوتُكُمْ عَنْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبة ۶۶/۶۵)

”کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ معذرت نہ کرو۔ تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے ہو۔“

وَاللّٰهُ التَّوْفِیْقُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

الجبیتہ الدائمۃ۔ رکن: عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، نائب صدر: عبدالرزاق عقیفی، صدر عبدالعزیز بن باز فتویٰ (۶۲۸۰)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ ابن باز رحمہ اللہ

جلد دوم - صفحہ 44

محدث فتویٰ